

آنگن واڑی کارکن میں ضروری صلاحیتیں

تعارف

- ❖ ایک آنگن واڑی کارکن میں جو صلاحیتیں ہونا ضروری ہیں، انہیں 6 سیٹ میں بانٹا جاسکتا ہے۔ یہ بہت آسان ہیں اور چند گھنٹے میں ہی سیکھی جاسکتی ہیں اور ان سے ہزاروں جانیں بچائی جاسکتی ہیں۔
- ❖ صلاحیتوں کے 6 سیٹ مندرجہ ذیل ہیں:



1. لیڈرشپ

- لیڈر وہ شخص ہوتا ہے جو گروپ کو آگے لے جاتا ہے اور گروپ کے دوسرے ارکان مل کر ایک ٹیم بناتے ہیں۔
- کچھ لیڈر پیدائشی ہوتے ہیں اور کچھ کو لیڈر بنایا جاتا ہے۔
- لیڈرشپ یا قائدانہ صلاحیت لوگوں کے خیالات، ان کے رویہ اور ان کے نام پر اثر انداز ہونے کا ایک مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے کام کرنے والے ایک گروپ کے ویژن کو حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اسے مؤثر طور پر چلایا جاسکے۔
- لیڈر میں:

- اعتماد ہو یعنی اپنے آپ پر اور اپنے نظریات پر پورا اعتماد ہو۔
- پرسکون اور پراعتماد رہ کر ٹیم کو بھی ایسا محسوس کراتا ہے اور اس طرح لیڈر کی تحریک پر ہر ایک کام کرتا ہے اور آگے بڑھاتا جاتا ہے۔
- بات چیت کرنے کی اچھی صلاحیت ہونی چاہئے، مناسب ترجیحات طے کرنے کی صلاحیت، سماجی اہلیت، تکنیکی جانکاری اور بنیادی نظریات کا علم اور تخلیقی طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہئے۔
- محنتی، ایماندار، اچھی امید رکھنے والے اور مثبت سوچ والے ہوتے ہیں اور حقائق پیش کرنے میں کسی ذاتی احساس یا متبادل سے متاثر نہیں ہوتے۔

2. بات چیت کی صلاحیت

- جب سماج کے لوگوں سے بات چیت کریں تو ذات پات یا طبقے کی بنیاد پر کبھی بھی امتیاز نہ کریں۔
- ان کے ساتھ احترام اور وقار کے ساتھ بات کریں۔
- لوگوں کو شریک ہونے اور استعمال کرنے کا موقع دیں اور ان کے ساتھ خالی برتن کی طرح سلوک نہ کریں۔
- ایک دم رد عمل ظاہر نہ کریں، غور سے سنیں، تجزیہ کریں اور پھر رد عمل ظاہر کریں۔
- معلومات کو عمومی طور پر نہ لیں۔ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے، آپ کیا چیز بدلنا چاہتے ہیں اور کیا جاری رکھنا چاہتے ہیں، ان سب میں بالکل واضح رہیں۔
- تعلیمی معلومات کے لئے ”بات چیت کی صلاحیت“ والے ضمیمے کو دیکھیں۔

4. مذاکرات کی صلاحیت

مذاکرات میں کامیابی کے لئے اقدامات

- دوسرے شخص کے امکانات کے بارے میں پوچھیں و مذاکرات کرتے وقت ایسے سوال پوچھیں جن سے پتہ چلے کہ دوسرے شخص کی تشویش کا سبب کیا ہے اور اس کی کیا ضروریات ہیں۔ مثال کے طور پر اس سے پوچھا جاسکتا ہے کہ آپ کے لئے میں کیا کر سکتی ہوں؟
- اپنی ضرورت بیان کریں۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں۔
- متبادل پہلے سے تیار رکھیں
- زیادہ بحث نہ کریں۔ اگر آپ کسی چیز سے اتفاق نہیں رکھتے تو نرمی کے ساتھ اس کا اظہار کریں لیکن حجت نہ کریں۔
- یہ کبھی محسوس نہ ہونے دیں کہ مخالف خود کو ہارا ہوا یا کم تر محسوس کرے۔
- بہت زیادہ صبر و تحمل کا اظہار کریں۔



6. سماجی سطح پر تحریک دلانے کی صلاحیت:

- عورتوں کے گروپوں کی میٹنگیں اور گاؤں والوں کی صحت، صفائی ستھرائی اور تغذیہ کمیٹی VHSNC کی میٹنگیں کرانا۔
- گاؤں والوں کی صحت کے لئے منصوبے تیار کرنا۔
- کمزور اور محروم طبقوں کو اس قابل بنانا تاکہ وہ صحت اور تغذیہ کی خدمات تک رسائی حاصل کر سکیں۔

3. فیصلہ کرنے کی صلاحیت

فیصلہ کرنے کے لئے کچھ بنیادی اقدامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔

- مسئلے کی نشاندہی کریں: صورتحال پر اچھی طرح غور کریں اور تمام پہلوؤں سے جانچیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔
- معلومات یکجا کریں: تمام ضروری معلومات اکٹھا کریں، متعلقہ اتھارٹی سے مشورہ کریں اور سماج کو شامل کریں۔
- متبادل پر غور کریں: برادری کی میٹنگ کا انعقاد کریں اور ان لوگوں کے ساتھ صورتحال پر تبادلہ خیال کریں جن کے ساتھ آپ نے مسئلے سے متعلق معلومات اکٹھا کرنے میں کام کیا تھا۔
- کسی متبادل کا انتخاب کریں: مختلف دستیاب متبادل میں سے کسی ایک متبادل کا انتخاب کریں۔
- فیصلے پر کام شروع کریں۔
- ایک اثر دار فیصلہ ایسا ہو جس میں۔
- گروپ کے ممبروں میں کوئی ناخوشگواری نہ ہو۔
- فیصلے پر عمل کر کے حقیقت میں بدلا جاسکتا ہو۔
- فیصلے پر عمل کیا جاسکتا ہو۔
- گروپ کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ گروپ کے ممبر اس فیصلے کے نفاذ کے لئے کام کریں۔

5. تعاون کی صلاحیت

- آنگن واڑی کارکن ہونے کے ناطے آپ حفظان صحت خدمات اور برادری کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں۔
- اس لئے آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ مختلف متعلقین اور عوام کے ساتھ مسلسل تال میل قائم کریں گے۔
- صحت اور تغذیہ سے متعلق مشترکہ طور پر یہ پروگرام کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اچھے نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔
- گاؤں کی سطح پر سنیہہ شور لگائیں اور گاؤں صحت اور تغذیہ کا دن منعقد کریں۔
- تال میل کے عمل میں ہر ممبر اہم رول ادا کرتا ہے۔ ایک آنگن واڑی کارکن کے طور پر آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ سبھی فریقین کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آپ انہیں پیش رفت کے بارے میں مطلع کرتی رہیں۔
- کسی میٹنگ یا دوسری کسی سرگرمی کے انعقاد کے لئے دوسروں سے مدد لینے میں کبھی نہ ہچکچائیں۔